

برائے فوری اجراء

برامپٹن نے تاریخی الیکٹرک بس پائلٹ پراجیکٹ کے لیے \$11.15 ملین کی سرمایہ کاری حاصل کر لی

برامپٹن، آن (29 جولائی، 2019) – آج میئر پیٹرک براؤن نے برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے برامپٹن میں تاریخی بین کینیڈین الیکٹرک بس ڈیمانڈیشن اینڈ انٹیگریشن ٹرائل میں حکومت کینیڈا کی جانب سے بڑی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہا۔

محترمہ کیتھرین مک کینا، مسٹر آف انوائرنمنٹ اینڈ کلائمٹ چینج نے اس پائلٹ پراجیکٹ کے مرحلہ 1 کے لیے فنڈنگ میں \$11.15 ملین کا اعلان کیا، جس میں برامپٹن میں بیٹری سے چلنے والی بسوں کی آزمائش ہو گی۔

اپنی نوعیت کا یہ پہلا پراجیکٹ برامپٹن ٹرانزٹ اور کینیڈین ٹرانزٹ ریسرچ اینڈ انویشن کنسورشیم (CUTRIC)، مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی بسوں کے تیار کنندہ نیو فلائیر انڈسٹریز اور نووا بس، اور چارجنگ اسٹیشن کے تیار کنندہ ایب اینڈ سائمنز (ABB and Siemens) کے درمیان مسلسل اشتراک کا نتیجہ ہے۔ اس بے مثال انیشیٹیو نے برامپٹن میں الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے حکومت، بس اور چارجر کے تیار کنندگان، سسٹم انٹیگریٹرز، تعلیمی ماہرین اور فنڈنگ پارٹنرز کے کئی درجوں کو باہم مربوط کیا ہے۔

یہ معیاری اور پوری طرح متبادل طور پر چلانے جانے کے قابل بیٹری سے چلنے والی الیکٹرک بسیں اور ہائی پاورڈ اور ہائی چارجنگ سسٹم کی عالمی طور پر سب سے بڑی تنصیب ہو گی؛ جس میں آٹھ الیکٹرک بسیں (چھ نیو فلائیر انڈسٹریز کی جانب سے اور دو نووا بس کی جانب سے) اور چار عدد چارجنگ سسٹم (تین ABB گروپ کی جانب سے اور ایک سائمنز کی جانب سے) موجود ہوں گے۔

کسی قسم کے مضر اخراج کے بغیر بیٹریوں سے چلنے والے یہ کاپائلٹ الیکٹرک بسیں برامپٹن کے دو موجودہ راہتی روٹس پر چلیں گی: یعنی 23 سینڈل ووڈ اور 26 ماؤنٹ پلیزنٹ کے روٹس پر۔ راستے کے اوپر چلنے والے نئے چارجنگ اسٹیشنز کو ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج ٹرمینل، کونین اسٹریٹ/ہائی وے 50 زوم اسٹیشن اور سینڈل ووڈ ٹرانزٹ فیسیلٹی سے شروع کیا جائے گا۔ پورے پراجیکٹ کی قیمت کا تخمینہ \$15.96 ملین لگایا گیا ہے۔

الیکٹرک بسیں 2020 کے اختتام/ابتدائی 2021 تک برامپٹن کی سڑکوں پر چلنا شروع ہو جائیں گی۔

برامپٹن ٹرانزٹ ایسی اعلیٰ معیاری سروس فراہم کرنے کے لیے نئے اور جدت پسند طریقوں کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، جس سے سٹی کا مجموعی کاربن فٹ پرنٹ اور گرین ہاؤس گیس (GHG) کا اخراج کم ہو۔ برامپٹن ٹرانزٹ موجودہ طور پر اپنے بیڑے میں 441 بسیں چلاتا ہے، بشمول 121 ڈیزل الیکٹرک ہائبرڈ زوم بس ریپڈ ٹرانزٹ بسیں۔

اقتباسات

"ایک اچھی طرح مربوط ٹرانزٹ نیٹ ورک کینیڈا کے انویشن کوریڈور میں اپنا مقام بنانے کے لیے ہمارے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے اعلان سے کوریڈور میں برامپٹن کی جدت کا اضافہ ہو گا اور برامپٹن کو قابل استحکام ذرائع آمد و رفت میں رہنما کردار حاصل ہو گا۔ نئی ای بسیں کونسل کے ہمارے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے اور ایک گرین سٹی بنانے کے عزم کی گواہی ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"برامپٹن سٹی کونسل نے ایک موسمی ہنگامی حالت کا اعلان کرنے کے لیے 35 دیگر مونسپلٹیوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ ای بس کا آغاز برامپٹن میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 2050 تک 80 فیصد کم کرنے کے ہمارے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہو گا۔ اپنے اس قدم میں پرجوش ہیں اور اپنے تمام شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔"

- کونسلر رووینا سیٹھوس، چیئر آف کمیونٹی سروسز

"برامپٹن ٹرانزٹ نے اپنے گاہکوں کو بہترین خدمات پیش کرنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے کئی نئی ٹیکنالوجیز اور اقدامات کو متعارف کروایا ہے۔ یہ ایک ایسا پراجیکٹ ہے جس میں ہم نئی، جدت پسند ٹیکنالوجیوں کو آزما رہے ہیں۔ ہم اس عالمی طور پر پہلے قدم کو دیکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور پرجوش ہیں۔"

- ایلکس ملوجیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca